

## برامپٹن میں تہواروں اور تقریبات کے ایک دلکش سلسلے کے ساتھ اس موسم گرما کا خوب لطف اٹھائیں

برامپٹن، آن (19 مئی 2022) – سٹی آف برامپٹن میں موسم گرما کے دوران پورے خاندان کے لطف اندوز ہونے کے لیے دلچسپ تہوار اور تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ 20 مئی سے 11 ستمبر تک، رہائشیوں اور مہمانوں کو شہر میں موسم گرما سے لطف اندوز ہونے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے؛ جو 114 دن کا سیزن ہے اور اس میں تقریباً 100 دنوں کے پروگرام شامل ہیں، بشمول:

- تہوار اور تقریبات مثلاً پرائیڈ 2022، نیشنل انڈجینس پیپلز ڈے اور کینیڈا ڈے؛
- کمیونٹی کی زیر قیادت تقریبات، مثلاً ورلڈ آف جاز اور وائبرینٹ برامپٹن؛
- ہفتہ وار پروگرام مثلاً ہر دل عزیز برامپٹن فارمرز مارکیٹ اور مووی ناٹس؛ اور
- مزید بہت کچھ!

سٹی آف برامپٹن رہائشیوں اور مہمانوں کو شہر بھر میں ذاتی طور پر منعقد ہونے والی تقریبات میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہے، جن میں برامپٹن کے تنوع کا جشن منایا جاتا ہے، شہری فخر کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، عوامی مقامات کو فعال بنایا جاتا ہے اور فنون لطیفہ اور ثقافت کے منظر کو نمایاں کیا جاتا ہے۔

سٹی آف برامپٹن کا ایونٹ کیلنڈر موسم گرما کے پروگراموں کی منصوبہ بندی کے لیے ون اسٹاپ شاپ کے طور پر کام کرے گا۔ ایونٹ کے منتظمین کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ کیلنڈر کو تفصیلات کے ساتھ تیار کریں تاکہ شہر بھر میں ان کی تقریبات کو فروغ دینے میں مدد ملے۔ کیلنڈر میں تقریبات کو شامل کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کچھ شیڈول کیا گیا ہے [brampton.ca/events](http://brampton.ca/events) ملاحظہ کریں۔ تقریبات پورے موسم گرما میں شامل ہوتی رہیں گی۔

### مقامی کاروباروں کی اعانت کریں

برامپٹن میں کسی تقریب کے دوران، کیوں نہ اس کا بھی ایک دن منایا جائے؟ برامپٹن فوڈ گائیڈ کے صفحات پلٹائیں اور مقامی ریستورینٹس کو سپورٹ کریں۔ برامپٹن کے کھانوں کا متنوع منظر، دنیا بھر سے منفرد ذائقے پیش کرتا ہے۔ آج ہی گائیڈ کے صفحات کو پلٹائیں اور اپنی ایک نئی پسندیدہ جگہ تلاش کریں۔ مزید [brampton.ca/tourism](http://brampton.ca/tourism) پر جانیں۔

### ڈاؤن ٹاؤن کی تجدید نو

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن اس وقت تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہا ہے، جس کی قیادت ریجن آف پیل کر رہا ہے، تاکہ علاقے میں واٹر مین اور سینٹری سیوریج کو تبدیل کیا جا سکے۔ جس کی وجہ سے کئی سڑکیں عارضی طور پر بند ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی تہوار یا تقریب میں شرکت کے لیے ڈاؤن ٹاؤن میں جا رہے ہیں، تو پیشگی منصوبہ بندی کر لیں۔

میونسپل پارکنگ کے بارے میں اپ ڈیٹس [brampton.ca](http://brampton.ca) پر مل سکتی ہیں یا پھر برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے تشریف لے جائیں۔ اپنے سفر کا پیشگی منصوبہ [Triplinx](http://Triplinx) کے ساتھ بنائیں۔

### اقتباسات

"موسم گرما بالکل سر پر ہے اور میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور یہاں برامپٹن میں منعقد ہونے والے حیرت انگیز تہواروں اور تقریبات میں سے ایک سے ضرور لطف اٹھائیں۔ ہمارے سگنچر کینیڈا ڈے کی تقریب سے لے کر ہفتہ وار برامپٹن فارمرز مارکیٹ تک، ان میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہم اس موسم گرما میں اپنے رہائشیوں اور مہمانوں کے لیے برامپٹن سے باہر نکلنے اور حقیقی معنوں میں لطف اندوز ہونے کے لیے منصوبہ بند پروگراموں کی لامتناہی تعداد پیش کرنے کے بارے میں پرجوش ہیں۔ میں اپنے تمام کمیونٹی پارٹنرز کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سیزن سے لطف اندوز ہونے کے لیے برامپٹن کمیونٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے ایونٹس کیلنڈر کو تیار کریں۔"

- پرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اور اس کے کمیونٹی پارٹنرز کے پاس موسم گرما کے دلچسپ پروگراموں کی ایک وسیع رینج موجود ہے، جن کو شہر بھر میں ہر کسی کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ برامپٹن اس موسم گرما میں جڑنے، مشغول ہونے اور تفریح کرنے کی ایک حقیقی جگہ ہے!"

- پال مورین، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)